



## جو شخص کسی میت کو غسل دے، اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے چالیس مرتبہ معاف فرمائے گا

ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے چالیس مرتبہ معاف فرمائے گا“  
[صحیح] [اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے - اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے - اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں اس شخص کی فضیلت کا بیان ہے جو میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے کسی عیب کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈالتا ہے میت کی کسی ناپسندیدہ حالت کو دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ جو اس کی حالت سے تعلق رکھے اور دوسرے وہ جو اس کے جسم اور بدن سے تعلق رکھے پہلی قسم جیسے نہ لانے والا دیکھنے کے میت کا چہرے تبدیل ہو گیا ہے، کالا اور بدصورت ہو گیا ہے، عموماً یہ اس کے بُرے خاتمہ کی علامت سمجھی جاتی ہے، اللہ کی پناہ، سو نہ لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ میں نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا، اس لیے کہ یہ اس کے عیوب کو بیان کرنا ہے، حالانکہ یہ میت اپنے رب کے ہاں چلا گیا ہے اور عنقریب وہ اپنے عدل و فضل کے مطابق اسے بدلے دے گا دوسرے یہ کہ نہ لانے والا میت کی پیٹھ پر کوئی عیب دیکھے جسے وہ اپنی زندگی میں لوگوں سے چھپاتا رہا، تو اس عیب کو چھپانے والے کے لیے اجرِ عظیم چالیس مرتبہ معافی کی صورت میں ملے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6402>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

